

ناپ تول اور لین دین میں دیانت

Honesty in Weights, Measures and Trade

1. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْيِزَانَ بِالْقِسْطِ

اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ﴿٦﴾ (b / 152)

Give measure and weight with equity. (6: Al-Ana'm \ 152)

2. قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْيِزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْسِدُوا فِي

الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾

تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آچکی ہے تو تم ناپ تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو۔ اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ﴿٧﴾ (c / 185)

Now has come to you a clear (sign) from your Lord! Give full measure and weight and diminish not to people the things that are their due and do no make mischief on the earth after its reform. That will be best for you if you are believers. ﴿٧﴾ (7: Al-A'raf \ 85)

3. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَأْتِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٧﴾

اور جب (کوئی چیز) ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور (جب تول کر دو تو) ترازو سیدھی رکھ کر تول کرو۔

یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ ﴿١٧﴾ (بنی اسرائیل \ m / 35)

Give full measure when you measure, and weigh with even scale, that is fair and better in the end. ﴿١٧﴾ (17 Bani-Israael/Al-Isra\35)

4. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٦﴾

اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ﴿٢٦﴾ (v / 183)

And withhold not things justly due to people, nor do evil in the land, making mischief. ﴿٢٦﴾ (26: Ash-Shuara \ 183)

5. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْيِزَانَ ﴿٥٥﴾

اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو۔ اور تول کم مت کرو۔ ﴿٥٥﴾ (9/μ)

So establish weight with equity and fall not short in the balance. ﴿۹﴾

(55: Ar-Rahma'n, 9)

6. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿۹﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿۱۰﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿۱۱﴾

ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے ﴿۹﴾ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں ﴿۱۰﴾ اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ ﴿۱۱﴾ (83: Al-Mutaffifin\ 1-3)

Woe to the defrauders, ﴿۹﴾ Those who, when they have to receive by measure from people, exact full measure, ﴿۱۰﴾ But when they have to give by measure or weight to people, give less than due. ﴿۱۱﴾ (83: Al-Mutaffifin\ 1-3)

احسان Benevolence

1. قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ﴿۱۰﴾
إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۱﴾

فرمادیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے۔ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ ﴿۱۰﴾
(39: Az-Zumar\ 10)

Say: "O you my servants who believe! Fear your Lord, good is for those who do good in this world. Spacious is Allah's earth! Truly the steadfast will be paid back a reward without measure!" ﴿۱۰﴾ (39: Az-Zumar\ 10)

2. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱﴾

اور بھلائی کرو بے شک اللہ بھلائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (2: Al-Baqarah\ 195)
But do good; for Allah loves those who do good. ﴿۱۱﴾

3. إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲﴾

کچھ شک نہیں کہ اللہ بھلائی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ﴿۱۲﴾ (9: At-Taubah\ 120)
Surely Allah wastes not the reward of those who do good. ﴿۱۲﴾

درگزر و معافی Overlooking and forgiveness

1. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ انْتَصَرَ
بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے۔ مگر جو درگزر کرے اور (معاملے کو) درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ﴿٤٠﴾ اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ ﴿٤١﴾ (42: § / 40-41)

The recompense for an evil is like an evil thereof, but if a person forgives and makes reconciliation, his reward is due from Allah. Verily He loves not the transgressors. ﴿٤٠﴾ And whoever defend him after being oppressed, these it is against who there is no cause of blame. ﴿٤١﴾

(42: Ash-Shura\ 40-41)

2. إِنْ تُبَدُّوْا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوْهُ أَوْ تُعْفُوْا عَنْ سُوءٍ فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا (اور) صاحب قدرت ہے۔ ﴿١٤٩﴾ (4: 139)

Whether you do a good publicly or conceal it or pardon it, verily Allah is ever Pardoning, Powerful. ﴿١٤٩﴾ (4: An-Nisa\ 149)

3. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِبِئْسَلِ مَا عَوَّضْتُمْ بِهِ ۗ وَلَٰكِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٦﴾

اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی۔ اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ﴿١٦﴾ (16: 1 / 126)

And if you punish, let your punishment be proportionate to the wrong done to you, but if you show patience that is indeed the best for the patient. ﴿١٦﴾ (16: An-Nahl\ 126)

4. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿٧﴾

(اے محمد!) عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ ﴿٧﴾

(7: c / 199)

Hold to forgiveness, command what is right, but turn away from the

ignorant. ﴿7: Al-A'raf\ 199﴾

5. اِدْفَعِ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ط مَحْنٌ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٥﴾

اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو۔ اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم

ہے۔ ﴿23: i / 96﴾

Repel evil with that which is best: We are well aware with the things they say. ﴿23: Al-Muminun\ 96﴾

6. وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعِ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ

حَمِيمٌ ﴿٦﴾ وَمَا يَلْقَاهَا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَلْقَاهَا اِلَّا دُوْحًا عَظِيْمٌ ﴿٦﴾

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو (سخت کلامی کا) ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے

سے تم دیکھو گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے ﴿٥﴾ اور یہ بات ان ہی لوگوں کو

حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں۔ اور ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ ﴿41﴾

﴿٣٥ / احم﴾

The goodness and evil can not be equal. Repel with what is best. Then he between whom and you was enmity will become fast friend and intimate! ﴿٥﴾ And no one will attain this except those who are patient and none, but persons of the greatest good fortune. ﴿٥﴾

(41: Fussilat / Hameem As-Sajdah\ 34-35)

صبر و قناعت

1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١﴾

اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ﴿٥﴾

(2: 2 / 153)

O you who believe! Seek help with patience and prayer. Indeed Allah is with those who are patient. ﴿2: Al-Baqarah\ 153﴾

2. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْحَسِنِينَ ﴿٢﴾

اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ﴿11: g / 115﴾

And be patient. For verily Allah wastes not the reward of the righteous. ﴿11: Hud\ 115﴾

3. وَكَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٣٣﴾

اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ ﴿42: Ash-Shura\ 43﴾

And whoever shows patience and forgives, that would truly be an affair of great resolution. ﴿42: Ash-Shura\ 43﴾

دوستی و تعاون Friendship and Cooperation

1. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَكَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ط وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٣٨﴾

مؤمنوں کو چاہئے کہ سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ (عہد) نہیں ہاں اگر اس طریق سے تم ان (کے شر) سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو (تو مضائقہ نہیں) اور اللہ تم کو اپنے (غضب) سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف (تم کو) لوٹ کر جانا ہے۔ ﴿38: A' al-e-Imran﴾

Let not the believers take unbelievers for friends or helpers rather than believers, And whoever does that, has no connection with Allah, that you may guard yourselves from them guarding carefully. And Allah cautions you Himself. And the final goal is to Allah. ﴿38: A' al-e-Imran﴾

(3: A' al-e-Imran, 28)

2. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ط أَرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

اے اہل ایمان! مؤمنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ ﴿144: An-Nis'a﴾

O you who believe! Take not for friends unbelievers rather than believers: Do you wish to offer Allah an open proof against yourselves? ﴿144: An-Nis'a﴾

(4: An-Nis'a\144)

3. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ

فَأِنَّكَ مِنْهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہیں میں سے ہو گا بیشک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ﴿5: Al-Ma'idah\51﴾

O you who believe! Take not the Jews and the Christians for your friends and protectors. They are but friends and protectors to each other. And whoever among takes them for friendship is of them. Verily Allah guides not a people unjust. ﴿5: Al-Ma'idah\51﴾

4. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ط وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥١﴾

اے اہل ایمان! اگر تمہارے (ماں) باپ اور (بہن) بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو۔ اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ ﴿9: At-Taubah\23﴾

O you who believe! Do not befriend your fathers and your brothers if they love disbelief above faith. Whoever of you befriends them, such are the wrong doers. ﴿9: At-Taubah\23﴾

5. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ﴿9: At-Taubah\71﴾

The believers, men and women, are friends of one another. They enjoin good and forbid evil and they keep up prayers, pay poor due and obey Allah and His Messenger. On them Allah will have His mercy. Indeed Allah is Mighty, Wise. ﴿9: At-Taubah\71﴾

6. وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ط تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ط وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٧١﴾

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھو۔ اور تمہاری نگاہیں ان میں (گزر کر اور طرف) نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ۔ اور

جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہنا ماننا۔ ﴿٢٨ / n : 18﴾

And keep yourself content with those who pray to their Lord in the morning and evening, seeking His Face (pleasure) and turn not your eyes away from them, in quest of pomp and worldly glitter of this life. Follow not him whose heart We have made unmindful of Our remembrance, one who follows his own desires and whose case has gone beyond all bounds. ﴿٢٨ / n : 18﴾

7. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ لَا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٤ / 2 : 2﴾

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ﴿٢٥٤ / 2 : 2﴾

Allah is the Protector of the faithful. He leads them from darkness into light. And those who disbelieve are the friends of devil, who takes them out of light into darkness. They will be the companions of the Fire, to dwell therein (for ever). ﴿2: Al-Baqarah\257﴾

8. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

اور جو لوگ کافر ہیں (وہ بھی) ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ ﴿٤٣ / d : 8﴾

The unbelievers are friends of one another. (8: Al-Anfal\73)

9. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦-55/a : 5﴾

بیشک تمہارے دوست اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے آگے) جھکتے ہیں ﴿٥٦﴾ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو (وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو گا اور) اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ ﴿٥٦-55/a : 5﴾

Verily your friends are Allah, His Messenger, and the believers, - those who establish prayers and pay poor due and they bow down humbly. ﴿٥٦﴾ As to those who take Allah, His Messenger, and the believers for

friendship. The party of Allah shall triumph. ﴿5: Al-Ma'idah\ 55-56﴾

10. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور (دیکھو) نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ﴿5: a / 2﴾

Help one another in righteousness and piety and help not one another in sin and aggression, fear Allah. Verily Allah is severe in punishment. ﴿5: Al-Ma'idah\2﴾

11. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو۔ ﴿3: A'l-e-Imran\159﴾

And consult them in important matters. ﴿3: A'l-e-Imran\159﴾

مجلسی آداب Social Etiquettes

1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَاسْلُبُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَبْأُتِعْمَلُونَ عَلَيْكُمْ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

مومنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے (لوگوں کے) گھروں میں گھر والوں سے اجازت لئے اور ان کو سلام کئے بغیر داخل نہ ہو کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے (اور ہم) یہ نصیحت اس لئے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو ﴿﴾ اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ (اس وقت) لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے ﴿﴾ ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب (رکھا) ہو، تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ ﴿27-29 / t : 24﴾

O you who believe! Enter not houses other than your own, until you have asked permission and saluted those in them, that is better for you, in

times of your privacy. Besides these it is neither wrong for you nor for them to move about attending to each other. Thus does Allah make clear the message to you. Surely Allah is all Knowing, Wise. ﴿ But when the children among you come of age, let them (also) ask for permission, as do those senior to them. Thus does Allah make clear His message to you. Verily Allah is all Knowing, Wise. ﴿ Such elderly women as are past the prospect of marriage, - there is no blame on them if they lay aside their garments, without displaying their adornment, but it is better for them to be modest and Allah is all Hearing, Knowing. ﴿ (24: An-Nur, 58-60)

3. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا
 مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ
 بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَفَاحِشًا أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ
 طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيِّنٌ لِّلَّذِينَ لَعَلَّهُمْ يَتَعَلَّمُونَ ﴿

نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ اور جب گھروں میں جایا کرو تو سلام کیا کرو۔ (یہ) اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ﴿ (24: t / ۶۱)

It is no blame on the blind nor on the lame, nor on sick, nor on yourselves, that you eat in your own houses or your father's or your mother's or your brother's or your sister's or your father's brother's or your father's sister's, or your mother's brother's, or your mother's sister's, or in houses of which the keys are in your possession, or in the house of your friends. There is no blame on you, whether you eat jointly or separately. So when you enter houses, salute each other, a blessed and good greeting from Allah. Thus does Allah make clear the verses to you that you may understand. ﴿ (24:An-Nur, 61)

4. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا

فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾

مومنو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو۔ اللہ تم کو کشادگی بخشے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ ﴿58: Al-Mujadilah, 11﴾

O you who believe! When you are asked to make room in the gatherings, make room. Allah will provide you ample room. And when you are asked to rise up, rise up, Allah will exalt among you, who believe and who have been granted knowledge. And Allah is well-Aware of all what you do. ﴿58: Al-Mujadilah, 11﴾